



سوال

(72) نماز میں ذہن کا مستثمر ہونا

جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جب میں نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتی ہوں تو میرا ذہن مستقر ہوتا ہے اور بہت سی سوچیں آنے لگتی ہیں اور میرے سلام پھر یہ نے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ میں دوبارہ نماز ادا کرتی ہوں تو بھی وہی پہلی سی حالت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ پہلا شہد بھول جاتی ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ لتنی رکعت ادا کی ہیں جس سے میرا اضطراب اور اللہ تعالیٰ سے خوف بڑھ جاتا ہے۔ پھر میں سچدہ سوکر لیتی ہوں۔

آپ سے استفادہ کی توقع ہے آپ کا بہت بہت شکریہ! ایک مسلمان عورت

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ !

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

وسو سے شیطان کی طر سے ہوتے ہیں اور آپ پروا جب ہے کہ آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں اس طرف متوجہ ہوں۔ اس میں اطمینان پیدا کریں تاکہ علی درجہ الیصہت نماز ادا کر سکس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں :

قد أفلح المؤمنون ١ الذين هم في صلاحهم خاشعون ٢ ... المؤمنون

”ان مومنوں نے فلاج بالی جو اپنی نماز میں ڈرنے والے ہیں“

اور جب نبی ﷺ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے نماز پوری طرح نہ پڑھی تھی اور نہ اس میں تسلی کی تھی، تو آپ ﷺ نے اسے دہرانے کا حکم دیا اور فرمایا:

((اُذْفَتْ الْمُسْلِمُونَ فَكُلْ خَمْرًا يَعْصِي مَنْ يُعَصِّي مِنْهُ، اِلْقَاءُهُ، خَمْرٌ اَنْزَلْتُ لَهُ تَطْبِيقًا، رَأَكُلْ خَمْرًا فَحَلَّ تَبَغِيرًا، اِتْقَاهُ خَمْرًا اَخْمَدْتُ لَهُ تَطْبِيقًا، سَاجِدًا خَمْرًا فَحَلَّ تَطْبِيقًا، جَالَ خَمْرًا فَحَلَّ تَطْبِيقًا، ذَكَرَ فِي صَلَوةِ قَدْرًا))

”جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمی طرح وضو کرو قبلہ کی طرف رخ کرو۔ پھر تکبیر کو، پھر قرآن سے جس قدر آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تمیں رکوع کرتے ہوئے اطمینان ہو جائے۔ پھر اوپر اٹھو حتیٰ کہ تم بوری طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدہ کرنے میں تمیں اطمینان ہو جائے پھر اٹھو حتیٰ کہ اطمینان سے میٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدہ کرنے میں اطمینان ہو جائے پھر اپنی ساری نماز کو اسی طرح مکمل کرو۔“



محدث فتویٰ
جعفری تحقیقی اسلامی پروردہ
ISLAMIC RESEARCH COUNCIL OF AMERICA

جب آپ جانتی ہیں کہ آپ نماز میں کھڑی اور اللہ سبحانہ کے سامنے مناجات کرتی رہیں آپ کو نماز میں خشوع اور اس کی طرف متوجہ ہینے کی دعوت دیتی ہیں اور شیطان آپ کد و دور ہینے اور اس کے وسوسوں سے سلامتی کا باعث نہیں ہے اور جب نماز میں بخڑت و سو سے آنے لگیں تو اپنی دلکش طرف تی بار تھوک دیں اور تین بار شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس طرح انشاء اللہ وہ تم سے پرے ہٹ جائے گا۔ نبی ﷺ سے ایک صحابی کو ایسا ہی حکم دی اتحاجس نے آپ ﷺ سے کہا تھا : اے اللہ کے رسول ! شیطان میری نماز میں شک و شبہ ڈال دیتا ہے۔

ان وسوسوں کی وجہ سے آپ کے لیے نماز داہر نے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف سجدہ سو کر لیں جبکہ وہ واجب ہو مثلاً بحولے سے تشدید گیا ہو امثلاً کوع اور سجود میں تسبیح رہ گئی ہو۔

اور جب یہ شک پیدا ہو کہ مثلاً نماز ظہر کی تین رکعت ادا کی ہیں یا چار، تو انہیں تین شمار کر کے نماز مکمل کرو اور اسلام سے پہلے سو کے دو سجدے نکال لو اور مغرب کی نماز میں شک پیدا ہو کہ رکعت دو ادا کی ہیں یا تین دو شمار کر کے نماز مکمل کرو اسلام سے پہلے سو کے دو سجدہ نکالو کیونکہ نبی ﷺ نے ایسا ہی حکم دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے پانی پناہ میں کھے اور اس بات کی توفیق دے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔

هذا عندی والله أعلم بالصواب

فتاویٰ دارالسلام

1 ج

محمد فتویٰ